



5190CH07

باب 7

موثر ابلاغ کی مہارتیں

(Effective Communication Skills)

آموزشی مقاصد

یہ باب مکمل کرنے کے بعد طلباء—

- ابلاغ کی مہارتوں کا مفہوم تاسکین گے۔
- ابلاغ کی اہمیت پر گفتگو کر سکیں گے۔
- ابلاغ کی مختلف مہارتوں کو بیان کر سکیں گے۔
- ابلاغ کی خود اپنی مہارتوں کو مزید فروغ دے سکیں گے۔

ہر شخص کو موثر تریل کے طور پر یقون سے پوری طرح واقف ہونا چاہیے، چاہے یہ ابلاغ اس کی ذاتی زندگی سے متعلق ہو یا کام کا جس سے ماہرین کے مطابق ایک اچھا تریل کار (Communicator) ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص نے اپنی ذاتی زندگی ہی نہیں بلکہ پیشہ و رانہ زندگی میں بھی بڑی حد تک کامیابی حاصل کر لی ہے۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ جو شخص اچھا بول سکتا ہے اور سمجھ دار سامع ہے اس کی گفتگو میں کسی غلط فہمی کی گنجائش نہیں ہوگی۔ دراصل غلط فہمی کی بنیادی وجہ ہی یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بات کے اظہار کی صلاحیت نہ رکھتا ہو یا پچھہ سمجھ دار سامع نہ ہو۔

ہم تریل کے عمل میں مختلف صلاحیتوں کا استعمال کر کے معلومات را اطلاعات کو حاصل بھی کرتے ہیں اور ارسال بھی کرتے ہیں۔ تریل کے عمل کا اثر مناسب اور موزوں تریل کی مہارتوں کے استعمال پر موقوف ہے۔ اسی لیے ابلاغ کی موزوں صلاحیتیں ہر شخص کے لیے بہت اہم ہوتی ہیں۔ تریل کے عمل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کہنے والے نے جو کچھ کہا ہے اس کو سننے والے (Receiver) نے باہمی تفہیم کے ساتھ سمجھ بھی لیا ہے۔ ایسا اس لیے ہو سکتا ہے کہ تریلی عمل کے مختلف مرحلے میں مفہوم مسخ ہو سکتا ہے۔ ابلاغ کے عمل میں پیدا ہونے والے خلا کو پر کرنے کے لیے کسی بھی شخص کے لیے ضروری ہے کہ اسے ابلاغ کا ہمراٹا ہو۔ ابلاغی مہارتیں تیز ہونی چاہیں تاکہ ابلاغ کا عمل موثر ہو سکے۔

7.1 ابلاغی مہارتوں کا مفہوم

(Meaning of Communication Skills)

- زبان کے استعمال اور اطلاعات کے اظہار کی صلاحیتوں کو ہی ابلاغ کی مہارت کہتے ہیں۔ اس طرح ابلاغ کا ہر ان صلاحیتوں کو کہتے ہیں جو معلومات کو موثر طور پر بھیجنے اور وصول کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ یہ صلاحیتوں قدرتی بھی ہوتی ہیں اور اکتسابی بھی۔
- ابلغی مہارتیں ان طور طریقوں پر مشتمل ہوتی ہیں جو دیگر افراد تک معلومات پہنچانے کا کام کرتے ہیں۔ ابلاغ کے عمل میں سوچنا، بولنا (گویائی)، سننا (ساعت)، پڑھنا، لکھنا، تصویر قائم کرنا اور جسمانی اشارات شامل ہیں۔ ان صلاحیتوں کے ذریعے ہم مختلف حالات میں اور مختلف طریقوں سے معلومات کو وصول بھی کر سکتے ہیں اور دوسروں تک پہنچا بھی سکتے ہیں۔
- اگر ہم نفسیات کی زبان میں بات کریں تو ابلاغ کا ہر ان رویوں کو کہیں گے جن کے ذریعے کوئی شخص کسی معلومات کو دوسرے تک منتقل کرتا ہے تاکہ اس مواد کی باہمی تفہیم ہو سکے۔
- اس طرح ابلاغی مہارت اس صلاحیت کو کہیں گے جو ایک شخص اپنی بات کو مختلف لوگوں سے موثر طریقے سے اور تسلسل کے ساتھ کہنے کا الہ بناتی ہے اور اس طرح وہ اس بات کی مشترک تفہیم کر پاتے ہیں۔ زبانی یا تحریری الفاظ، اشاروں اور پیغامات کی ترتیب کی مدد سے مخاطب کو راغب کرنے کا فن، الفاظ اور حرکات و مکانات کاatal میں، مخاطب اور حالات کے حسب حال کی بات کو تصور کرنے اور پھر اسے لفظوں میں ڈھالنے کا فن اور تکنیک ابلاغ کی مہارتوں میں شامل ہیں۔

معلومات کی لین میں ابلاغی مہارتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو شخص کوئی پیغام بھیتا ہے اسے اپنے مخاطب کی شخصیت، اس کی ضروریات اور دلچسپیوں کا خیال کرتے ہوئے اپنے مقررہ پیغام پر غور کرنے، اس کا ذہنی نقشہ تیار کرنے اور ترتیب دینے کے لیے ان مہارتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ مرسل یا پیغام بھیجنے والے کے لیے پانچ کاف (یعنی کیا؟ کہاں؟ کیوں؟ کب؟ کس کو اور کیسے؟) بہت اہم ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح پیغام کے وصول کنندہ کو چاہیے کہ وہ ذہنی تحفظات اور تعصبات یا طبعی میلانات سے نجات پا کر اس پیغام کو بغور سنے، دیکھنے اور پڑھنے اور ضروری ہو تو اس پیغام کے بین السطور کو بھی پڑھنے کی کوشش کرے۔ کہا جاتا ہے کہ قدرت نے ہمیں دو کان اور ایک منہ اس لیے عطا کیے ہیں کہ ہم کم بولیں اور زیادہ سین۔ کیا ہم اس بات پر عمل کرتے ہیں؟ وصول کنندہ کو یہ چاہیے کہ وہ ایک کان سے الفاظ کو سننے اور دوسرے کان سے یہ محسوس کرے کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ اس طرح وصول کنندہ کو پیغام کی تفہیم میں مدد ملے گی۔

کیا آپ جانتے ہیں کہ ابلاغ کے 70 فیصد حصے کی تفہیم غلط ہوتی ہے، یا اس کی تشریح اور ترجیحی غلط ہوتی ہے، یا اس کو مسترد کر دیا جاتا ہے، یا تو ڈرمود دیا جاتا ہے یا پھر سنایہ نہیں جاتا۔ موثر ابلاغی صلاحیتوں سے ہم ان خمیوں کو کم کر سکتے ہیں۔

7.2 ترسیلی مہارتؤں کی فشتمیں (Types of Communication Skills)

trsیل کا اسلوب کیا کہا جا رہا ہے، کی طرح ہی یا اس سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ جسمانی اشارات بھی الفاظ کی طرح ہی اور کبھی کبھی ان سے بھی زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ ہم معلومات کو کتنے موثر طور پر بھیجتے یا وصول کرتے ہیں یا اس بات پر موقوف ہے کہ ہم کسی ایک یا زیادہ ترسیلی مہارتؤں کو موثر طور پر اور کس طرح استعمال کر رہے ہیں:

- سوچنا
- پڑھنا
- لکھنا
- سننا
- بولنا
- بلاغظ ترسیل

سوچنا (Thinking)

سوچنا ذاتی ابلاغ ہے۔ اس میں انفرادی غور و فکر، انہاک اور مجویت شامل ہے۔ سوچنے کے عمل سے کوئی شخص بھی اپنے خیالات، افکار، آراء اور احساسات کو منتخب کرنے اور ان کو مرتب اور منظم کرنے کا اہل ہو سکتا ہے۔ ایک طرح سے، یہ ایک تجربیدی (Abstract) عمل ہے کیوں کہ جب تک اس کا اظہار الفاظ یا احساسات یا تحریریوں کے ذریعے نہ کیا جائے کوئی بھی سوچنے کے عمل کو مکمل نہیں دیکھ سکتا۔ سوچنا، ترسیل کا بنیادی مرحلہ ہے۔ آپ کے تمام اعمال اسی بات پر مخصر ہیں کہ آپ کیا اور کس طرح سوچتے ہیں۔

آپ سوچنے کی مہارت کو کس طرح فروغ دے سکتے ہیں؟

- آپ جو کچھ سوچ رہے ہیں اس پر اپنی توجہ مرکوز کیجیے۔
- سوچنے کے عمل کے دوران منتشر خیالی سے بچے۔
- تجھیقی صلاحیت (Creativity)، مسائل حل کرنے کی الیت، اشتراک عمل، باریک بینی اور فکری اعتدال، جیسی مہارتؤں کو فروغ دینے کے لیے سوچنے کے عمل کو طاقت ور بنائیے۔
- ہمیشہ ثابت روایہ اختیار کیجیے۔

پڑھنا (Reading)

یہ چچے یا لکھے ہوئے مواد سے معنی حاصل کرنے کی صلاحیت ہے۔ تفریق، معلومات اور علم کا حصول مطالعے کے لیے چند ترجیبی عوامل ہیں۔ مہارت کے ساتھ پڑھنے کے لیے زبان کا علم، پڑھنے میں روانی، ذخیرہ الفاظ، سمجھ کر پڑھنے، اور اس کی صلاحیت (Cognition) اور رمز کشانی (Decoding) کی ضرورت ہوتی ہے۔ بچہ عموماً چچے سال کی عمر تک زبان اور آوازوں سے واقف ہو جاتا ہے۔ ساتھیں

سال میں وہ پڑھنے یا مرکشاپ کے ابتدائی مرحلے میں ہوتا ہے۔ مرکشاپ کی مہارت میں بہتری آتی جاتی ہے اور آٹھ سال تک کی عمر میں لفظوں کی صحیح شناخت کے ساتھ پڑھنے میں روانی بھی آتی ہے۔ نو سال کی عمر تک بچہ روانی کے ساتھ پڑھنے لگتا ہے اور 14 سے 19 سال کی عمر تک قاری (Reader) کو پسند بھی کرنے لگتا ہے۔ اس قابل ہو جاتا ہے کہ جو کچھ وہ پڑھ رہا ہے اس کا تجزیہ کر سکے، مختلف نقطے نظر کو سمجھ سکے اور جو کچھ پڑھا ہے اس پر تنقیدی رعمل کا اظہار کر سکے۔

- پڑھنے کی صلاحیت کو آپ کس طرح فروغ دے سکتے ہیں؟
- اس مہارت کو فروغ دینے کے لیے آپ اپنی پسند کے موضوعات منتخب کر کے مطالعہ شروع کر سکتے ہیں۔
- مطالعے کے دوران پہلے دائیں سے باسیں طرف اور پھر سطر بہ سطر ایک خاص آہنگ کا خیال رکھیے۔
- کچھ پیر دنی سہولتیں بھی مثلاً باسیں طرف سے آنے والی روشنی کی کافی مقدار، حروف کا مناسب سائز اور پرسکون اور خاموش ماہول ضروری ہیں۔

سرگرمی 1

اپنے پڑھنے کی عادتیں جاننے کے لیے مندرجہ ذیل باتوں کو قلم بند کیجیے۔

- آپ ہر ہفتے مجموعی طور پر کسی کتاب، رسالے یا ناول کے کتنے صفحات پڑھ لیتے ہیں؟
- اپنے پرانے دوستوں سے موازنہ کر کے لکھیے کہ آپ اور وہ کس قسم کا ادب پڑھنا پسند کرتے ہیں۔

لکھنا (Writing)

ترسلیں کے لیے لکھنا سب سے اچھا طریقہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیغام پہنچانے کا واحد طریقہ لکھنا ہی ہوتا ہے۔ لکھنے کے لیے ہمیں یہ جانتا ضروری ہے کہ جو بات تحریری شکل میں آگئی ہے اسے واپس نہیں لیا جاسکتا۔ اس طرح زبانی ترسلیں کے مقابلے بلے تحریری ترسلیں زیادہ ہوس چیز ہے جس میں غلطی کا بھی کم سے کم امکان ہوتا ہے۔ تحریر میں ترسلیں کارکے سامنے کچھ نئے چیزیں (مثلاً لفظ کی جسے، قواعد کی غلطیاں، تنقید، لکھنے کا اسلوب اور الفاظ کا اختیاب وغیرہ) ہوتے ہیں۔ جدید کنالوجی (مثلاً کمپیوٹر) نے ایسے قابل اعتماد آلات اور ذرا رائج فراہم کر دیے ہیں جنہوں نے مختلف قسم کے میمورنڈم، خطوط یا تجاویز وغیرہ لکھنے کو بہت آسان بنادیا ہے۔ اب قواعد اور املائی کی غلطیاں کمپیوٹر کی مدد سے کپڑی جا سکتی ہیں۔ مضامین، گھر پر کرنے کے لیے دیا گیا اسکول کا کام، رسمی خطوط اور امتحانات میں وضاحتی جوابات لکھنے کے لیے یہ مہارتیں طلباء کے لیے بہت مفید ہیں۔

اچھا لکھنے کے لیے کچھ رہنمایا اصول

- عامیانہ لفظوں کے استعمال سے پرہیز کیجیے مثلاً خاتون کے لیے عورت کا استعمال۔
- مخففات استعمال کرنے کی کوشش نہ کیجیے۔
- اگر سائنس، حساب اور تکنیکی مضامین نہ ہوں تو علماتوں کا استعمال نہ کیجیے۔ اگر علماتیں بہت عام اور مشہور ہوں تو بات دیگر ہے۔
- پامال اور فرسودہ الفاظ یا فقرتوں کو بہت احتیاط کے ساتھ استعمال کیجیے۔

- لوگوں اور کمپنیوں کا نام اور الفاظ کا املائی صحیح لکھیے۔
- جب کوئی عددوں سے کم ہو یا اس کا استعمال جملے کے آغاز میں ہوتواں کو گنتی میں لکھیے۔
- (جیسے: دس سال پہلے میں اور میری بہن....) عدد 10 یا اس سے بڑا کوئی عدد ہوتواں کو گنتی میں لکھیے (جیسے میرے بھائی کے پاس 13 ماچس کی تیلیاں ہیں)
- رموز اوقاف (Punctuation) کا مناسب استعمال کیجیے۔
- جملے کو مختصر رکھیے۔

سرگرمی 2

- درج ذیل کے نمونے جمع کیجیے
- سائنسی تحریریں (مثلاً سائنسی میگزین یا سائنس کی درسی کتاب)
 - بچوں کی کہانیاں
 - رسالوں کے مضامین
 - اخبارات کے اداریے
- ان میں سے ہر ایک تحریر میں استعمال کیے جانے والے اسلوب یا انداز تحریر کے فرق کا مطالعہ کیجیے۔

سننا (Listening) 100

ترسیل کے عمل میں یا تو ہم معلومات دیتے ہیں یا لیتے ہیں۔ معلومات کو وصول کرنے کا موثر طریقہ مننا ہے۔ ہم ہر روز صبح سے شام تک طرح طرح کی معلومات یا پیغامات وصول کرتے ہیں لیکن کچھ باتوں کو ہم زیادہ آسانی سے یاد رکھ پاتے ہیں اور دیگر باتوں کو بھول جاتے ہیں۔ سماعت کرنا (Listening) ان صلاحیتوں کا مجموعہ ہے جن کا تعلق سننے (Hearing)، پیغام کے مداد اور پیغام میں وصول کرنے والے کے ساتھ بر塔وا اور مرسل اور پیغام کے ساتھ ہمارے نفسیاتی رابطے سے ہے۔ سماعت کرنا صرف سننا یا الفاظ کا کانوں میں پڑنا نہیں ہے۔ سماعت کرنے میں سمجھنے کی خواہش۔ پیغام اور بولنے والے کی بات قبول کرنے اور اس کا احترام کرنے کا رویہ بھی شامل ہے اور پیغام کے متعلق دوسروں کے تصور کی جائج اور اس کے تعلق رائے قائم کرنے کا شعوری رجحان بھی شامل ہے۔ سماعت کرنے کی صلاحیت قدرتی بھی ہو سکتی ہے اور اکتسابی بھی۔ اس کو کچھ بنیادی اصولوں پر عمل کر کے حاصل بھی کیا جاسکتا ہے۔

طلباں پنے اسکول کے وقت کا 20 فیصد حصہ سماعت کرنے میں صرف کرتے ہیں۔ اگرٹی وی دیکھنے اور گفتگو کرنے کے وقت کو بھی اس میں شامل کر لیں تو طلباء پنی بیداری کا تقریباً 50 فیصد حصہ سننے میں صرف کرتے ہیں۔ کلاس روم میں جو وقت گزرتا ہے اس میں سماعت کرنے کا وقت تقریباً 100 فیصد ہے۔

آپ سماعت کرنے کی مہارت کو کیسے فروغ دیں گے؟

• "ساعت کرنا" متحرک ہونا ہے۔ ساعت کرنا جسمانی اور نفسیاتی طور پر متكلم سے متاثر ہونا ہے۔

متاثرنہ ہونے والے اور پلک نہ جھپکانے والے شخص کے بارے میں کہا جاسکتا ہے کہ وہ غیر سامع (Non-listener) ہے... جب نظر آنے والی حرکت ختم ہو جائے اور آنکھ جھپکنے کی شرح چھٹے سینٹ میں ایک بار سے بھی کم ہو جائے تو سمجھ لیجیے کہ عملی اعتبار سے ساعت کا عمل رک چکا ہے،

(Franklin Ernst,Jr)

- متكلم (Speaker) کی باتوں پر پوری توجہ اور سکون کے ساتھ توجہ دیجیے۔

- ساعت کرتے وقت بولنا بند کر دیجیے۔

- سامع کو چاہیے کہ وہ ساعت کرتے وقت اپنے خیالات اور تصویرات کو ایک طرف کر دے اور دوسرے کے خیالات کو پوری ہمدردی کے ساتھ اس کے نقطہ نظر سے دیکھنے کی کوشش کرے۔

- پیغام کو سمجھنے کے لیے الفاظ کو غور سے سنئے اور بولنے والے کے احساسات پر توجہ دیجیے۔ پیغام کا یہیں اسطورہ پڑھنے کی بھی کوشش کیجیے۔

- غیر لفظی پیغامات جیسے متكلم کے تاثرات، اس کا میلان طبع اور اس کے بولنے کے حرکات سے بھی واقعیت حاصل کیجیے۔

بولنا (Speaking)

بولنا سب سے بنیادی ترسلی مہارت ہے۔ بولنے کا مطلب کسی بھی بولی جانے والی زبان میں آواز پیدا کرنا، تفہیم اور ان کا استعمال ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں ہم اپنے افراد خانہ، دوستوں اور کام کا ج کے ساتھیوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں اور انھیں اپنے خیالات و احساسات میں شرکیک کرتے ہیں۔

کسی گروپ کے سامنے بولنا اور عوامی تقریریں کرنا (Public speaking) بولنے کی مہارتوں کی دو اہم قسمیں ہیں۔ عوامی تقریریں لوگوں کے کسی گروپ سے ایک منظم اور سوچ سمجھے طریقے پر اس ارادے سے بولنا ہے تاکہ سامعین کو معلومات فراہم کی جائے، ان کو متاثر اور آمادہ کیا جائے، ان کو رغبت دلائی جائے اور ان کی تفتح کا سامان کیا جائے۔



اکثر بڑے مقرر وں میں قدرتی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اپنی مہارتوں اور اپنی باتوں کی اثر انگیزی کے ذریعے سامنے کو اپنی تقریر سخنے میں محبوبی رکھ سکتے ہیں اور ان کو خاص مقصد کے لیے متحرک بھی کر سکتے ہیں۔ زبان اور پیان عوامی تقریروں اور ہمیں شخصی ترسیل کے دو سب سے اہم پہلو ہیں۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ آپ کے زبانی یا لفظی پیغامات سمجھ لیے گئے اور یاد کر لیے گئے ہیں آپ کو چار آسان اور واضح عمل کرنے ہیں۔ یہ ہیں۔

- اپنی پیش کش یا بات چیت کے مقصد کو صحیح کریں۔

- مقصد کو واضح اور منصر کریں۔

- اپنی بات دوسروں کے سامنے پیش کرنے سے پہلے اچھی طرح تیاری اور مشق کیجیے۔

- پیغام کے ابلاغ کے وقت اپنے ذہن میں پیغام کا واضح تصور کریں۔

آپ اپنی بات چیت یا پیش کش کو سطح موثر بناسکتے ہیں؟

پیش کش یا بات شروع کرنے سے پہلے یہ بہت اہم ہے کہ آپ درج ذیل امور کو صحیح ہوں:

کون: وہ لوگ کون ہیں جن سے آپ بات کر رہے ہیں؟ ان لوگوں کے مفادات، ان کے مسائل اور ان کی اقدار کیا ہیں؟ ان میں اور دیگر لوگوں میں کیا باتیں مشترک ہیں؟ وہ لوگ منفرد یا یکتا کس مفہوم میں ہیں؟

کیا: آپ کس چیز کا ابلاغ کرنا چاہتے ہیں؟ موضوع گفتگو کی مناسب معلومات کامیابی کے لیے بہت اہم ہوتی ہے۔ اس سوال کا جواب دینے کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کامیابی کے پیمانے کے بارے میں سوال کریں۔ آپ کو یہ کیسے معلوم ہو گا کہ جو بات

آپ کے دل میں تھی وہ کامیابی کے ساتھ آپ نے پہنچا دی اور کب پہنچائی؟

کیسے: آپ اپنا پیغام بہترین طریقے سے کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ اپنے مناطق سے گفتگو کرتے وقت بہترین الفاظ اور غیر لفظی اشارات کا بھی انتخاب کیجیے۔ پیغام کے اول و آخر اور اس کے درمیانی حصے کے بارے میں بھی منصوبہ تیار کیجیے۔ اگر وقت ہوا اور جگہ بھی تو سمیٰ و بصری امدادی سامان بھی تیار کیجیے۔

کب: موزوں وقت بہت اہم پہلو ہے۔ وقت کے موزوں یا غیر موزوں ہونے کا اندازہ قائم کیجیے تاکہ آپ کی باتیں متعلقہ معاملے کے مطابق ہیں یا نہیں۔ ایسا بھی وقت ہوتا ہے جو بولنے کے لیے موزوں اور مناسب ہو اور ایسا بھی وقت ہوتا ہے جب خاموشی بہتر ہوتی ہے۔ یاد رکھیے کہ ”بے وقت کی رانگی سے خاموش رہنا بہتر ہے“

کہاں: آپ جس پیغام کا ابلاغ کرنا چاہتے ہیں وہ کہاں واقع ہو رہا ہے؟ مثال کے طور پر آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ آپ کمرے میں جاسکیں اور فرنچ کو دوبارہ ترتیب دے سکیں۔ اگر آپ سمیٰ و بصری امدادی سامان کا استعمال کر رہے ہیں تو وہاں چیزوں کی فراہمی اور کافی روشنی کا بندوبست بھی ضروری ہے۔

کیوں: سننے والوں (Hearers) کو سامنے (Listeners) میں بدلتے کے لیے آپ کو یہ جانا ضروری ہے کہ وہ آپ کی باتوں کی ساعت کیوں کریں اور اگر ضروری ہو تو یہ بات ان کو بھی بتانا ضروری ہے۔ ایسی کون سی باتیں ہیں جن کو ساعت کرنے کے لیے ان میں آمادگی پیدا ہو سکے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کچھ ابلاغ کرنا چاہتے ہیں اس کی قدر و قیمت اور اس کی افادیت آپ خود جانتے ہوں۔

آمادگی پیدا ہو سکے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کچھ ابلاغ کرنا چاہتے ہیں اس کی قدر و قیمت اور اس کی افادیت آپ خود جانتے ہوں۔

سرگرمی 3

کسی بہترین مقرر کو یاد کیجیے جسے آپ نے سنا ہو۔ وہ مقرر اچھا کیوں تھا اس پر اپنے خیالات قلم بند کیجیے۔


غیر لفظی ابلاغ (Non-verbal communication)

غیر لفظی مہارتوں کو کبھی کبھی بصری مہارتیں (Visual skills) بھی کہا جاتا ہے۔ ان سے اُن کی باتوں کا ابلاغ کیا جاتا ہے۔

ترسیل کی تحریری یا اٹاپ شدہ شکلوں کے ساتھ یہ بھی ترسیلی عمل کا ایک حصہ بن جاتی ہے۔

غیر لفظی اشارات میں درج ذیل چیزیں شامل ہیں:

- جسمانی اشارات (مثلاً دست بستہ ہونا، کھڑے ہونا، میٹھنا، پر سکون ہونا، تناؤ میں ہونا (جسمانی) حرکات، چہرے کے تاثرات، آنکھیں ملانا اور جسمانی وضع)
- مرسل اور وصول کننده کے جذبات (مثلاً چلا نا، جوش و خروش اور بھڑکانے والے انداز میں بولنا)
- لوگوں کے درمیان دیگر روابط (مثلاً دوستی، دشمنی، پیشہ و رانہ مسابقین یا اختلافات) عمر کی یکساں نیت یا تفاوت، فکری مشاہداتیں یا اختلافات، طبیعتوں کا میلان اور توقعات)



آنکھیں ملانا: آنکھیں ملانا یعنی شخصی ترسیل کا بہت اہم ذریعہ ہے۔ اس سے ابلاغ کے عمل میں روانی پیدا ہوتی ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ آپ دوسروں سے دل چھپی رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ مخاطب یا مخاطبوں سے آنکھیں ملانے سے متكلّم میں اعتبار بڑھتا ہے۔ جو شخص بات کرتے وقت آنکھیں ملاتا ہے اس سے ابلاغ میں روانی پیدا ہوتی ہے اور دل چھپی، لگاؤ، گرم جوشی اور اعتبار نظاہر ہوتا ہے۔

چہرے کے تاثرات: مسکراہٹ بہت طاقت و را اور موثر و سیلہ ہے۔ مسکراہٹ سے درج ذیل چیزوں کا اظہار ہوتا ہے۔

- خوشی
- دوستانہ جذبات
- گرم جوشی
- انسیت
- واپتگی

اگر آپ اکثر ویشتر مسکراتے ہیں تو آپ کے بارے میں یہ تصور پیدا ہوگا کہ آپ قابلِ اعتماد دوست ہیں۔ آپ میں گرم جوشی ہے اور آپ تک رسائی آسان ہے۔ مسکراہٹ اکثر ترنیبی ہوتی ہے یعنی آپ کی گفتگو کا سامع پر خوش گوارہ عمل ہوتا ہے اور وہ آپ کی باتوں سے زیادہ استفادہ کرتا ہے۔

جسمانی حرکات (Gestures): اگر بولتے ہوتے آپ کے اعضائے جسمانی کے کچھ اشارے، کچھ حرکات شامل نہ ہوں تو

104

آپ کی گفتگو بے کیف، بے جان اور غیر دل چسپ ہوگی۔ ایک زندہ اور جاندار تدریی انداز بچوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لیتا ہے اور موضوع کو دل چسپ بنادیتا ہے اور تفریق کا سامان بھی فراہم کرتا ہے۔ سر سے ہاں کا اشارہ کرنے سے بھی ابلاغ کو تقویت ملتی ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ توجہ سے سن رہے ہیں۔

جسمانی انداز و اطوار: آپ اپنے طرز گفتار، طرز رفتار اور طرز نشست و برخاست سے بھی بہت سی باتیں کہہ دیتے ہیں۔

سیدھے کھڑا ہونا لیکن اس طرح کھڑے ہونے میں اکثر کانہ ہونا بلکہ تھوڑا آگے کو جھکا ہونا اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ قابلِ رسائی، بات کو سمجھتے اور قبول کرنے والے اور دوست مزاج ہیں۔ اس کے علاوہ جب آپ اور آپ کے مخاطب آمنے سامنے ہوں تو اس سے بین شخصی تربت کا اظہار ہوتا ہے۔ پیچھے موڑ کر بات کرنے اور بات کرتے وقت فرش یا چھٹ کو دیکھتے رہنے سے بچنا چاہیے۔ یہ انداز اختیار کرنے سے عدم دل چھپی کا اظہار ہوتا ہے۔

قربت (Proximity): شفافی اصول اس بات کے مقاضی ہوتے ہیں کہ دوسرے لوگوں سے گفتگو کرتے وقت ایک مناسب فاصلہ برقرار رہے۔ اگر آپ دوسروں کے ذاتی معاملات میں مداخلت کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بے چین ہو رہے ہیں۔ اس بے اطمینانی کی کیفیت کا اندازہ آپ مندرجہ ذیل باتوں سے لگاسکتے ہیں:

- ہلنا جلانا
- پبلو بدلنا
- نظریں پڑانا

کالج کی بڑی کلاسوں یا بڑے کافرنس ہالوں یا کسی لپچر روم میں لوگوں کے ذاتی معاملات میں مداخلت کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ عام طور پر ایسے مقامات پر جگہ کشادہ ہوتی ہے۔ اس صورت حال کا مقابلہ کرنے کے لیے اور سامعین سے رابطہ کو بڑھانے کے لیے متكلّم کو محترم رہنا چاہیے۔ قربت میں اضافے سے آپ آنکھ سے آنکھ ملا کر بات کر سکتے ہیں اور سامعین بھی اپنی بات آپ سے کہہ سکتے ہیں۔

متوالی زبان (Paralinguistic): غیرلفظی ابلاغ کی اس شکل میں چھے صوتی عناصر (Vocal Elements) یعنی الجہ (Tone)، آنگ (Pitch)، کھنک (Timbre)، بلندی (Rhythm) اور زیر و بم (Inflection) شامل ہیں:

اپنی گفتگو کو زیادہ سے زیادہ موثر بنانے کے لیے مختلف موقعوں پر اپنی آواز میں ان چھے عناصر کا حسب ضرورت استعمال کرنا سیکھیے۔ صوتی عناصر یعنی الجہ، آنگ، کھنک، بلندی، اور زیر و بم کی مقررین اور اساتذہ کے بارے میں عام تقدیم یہی ہوتی ہے کہ ان کے لب و لبجھ میں یکسانیت ہوتی ہے اور سامعین ان کی باتوں کی بے کیفی سے اکتا جاتے ہیں۔ رسمی تدریس میں تو عام طور پر طلباء کو یہی شکایت رہتی ہے کہ وہ زیادہ نہیں سیکھ پاتے اور ان کی دلچسپی بھی جلد ختم ہو جاتی ہے کیوں کہ انھیں ایسے اساتذہ کو سننا پڑتا ہے جو اپنی آواز میں اتنا چڑھاؤ کرنا نہیں جانتے۔

سرگرمی 4

صوتی عناصر یعنی الجہ، آنگ، کھنک، بلندی، اور زیر و بم کی تعریف کیجیے۔ ان عناصر کو شکل بدل کر اپنی آوازوں میں پیدا کرنے کی مشق کیجیے۔

مزاح (Humour): مزاح کو لوگ عام طور پر نظر انداز

کرتے ہیں جب کہ یہ ایک خوش گوار اور پرسکون ماحول پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ کلاس روم میں مزاح کی حوصلہ افرادی نہیں کی جاتی۔ ہنسی سے متعلق اور سامع دونوں کا تنازع اور دباو دور ہوتا ہے۔ ہر شخص کو خود پر ہنسنے کی اہلیت کو فروغ دینا چاہیے اور سامعین کو بھی اسی طرح سوچنے کے لیے ترغیب دینی چاہیے۔ مزاح سے ایک دوستانہ ماحول پیدا ہوتا ہے جس سے ابلاغ آسان ہو جاتا ہے۔

سرگرمی 5

لفظی اور غیر لفظی مہارتوں کو بہتر بنانے کے لیے ایک ویڈیو آڈیو ٹیپ پر اپنی گفتگو یا اپنی پیش کش کے ایک حصے کو ریکارڈ کیجیے۔ پھر اپنے کسی ساتھی یا دوست سے کہیے کہ وہ مزید بہتری لانے کے لیے آپ کو مشورے دے اور کچھ تجاویز پیش کرے۔

آئیے ہم سبق میں سمجھی ہوئی باتوں کا اعادہ کریں

- ہر فرد کو موثر طور پر ابلاغ کے لیے ضروری ساز وسائل سے آ راستہ ہونا چاہیے۔ چاہے یہ ابلاغ شخصی سطح پر ہو یا کام کا جائز نوکری سے متعلق۔
- ابلاغ کی مہارتیں وہ صلاحیتیں ہیں جن کی مدد سے ہم معلومات کو موثر طور پر بھیجتے بھی ہیں اور وصول بھی کرتے ہیں۔ یہ مہارتیں فطری بھی ہوتی ہیں اور اکتسابی بھی۔
- ابلاغی مہارتیں ہمارے ان رویوں پر مشتمل ہوتی ہیں جو دوسروں تک معلومات پہنچاتے ہیں۔ ابلاغ کے عمل میں کسی ایک یا زیادہ مہارت، سوچنا، بولنا، سننا، پڑھنا، لکھنا، دیکھنا اور جسمانی اشارات کی ضرورت ہوتی ہے:-

اس اکائی کے دسویں اور آخری باب ”عالمی معاشرے میں زندگی اور کام کا ج“، میں خاندان، سماج (Community) اور عالمی معاشرہ (Global Society) کے ان مختلف مگر باہم مربوط معاملات کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے جن سے کسی فرد کا سابقہ پڑتا ہے۔

کلیدی اصطلاحات

ترسلی مہارتیں (Writing)، لکھنا (Reading)، سوچنا (Thinking)، پڑھنا (Listening)، سننا (Speaking)، بولنا (Non-verbal skills)

106

سوالات برائے نظر ثانی

- 1۔ ترسیلی مہارت کی اہمیت سے بحث کیجیے۔
- 2۔ ہر ترسیلی مہارت کا نام بتائیے اور اس کی وضاحت کیجیے۔
- 3۔ ”غیرلفظی مہارتیں لفظی مہارت کی طرح اہم نہیں ہیں“، اپنی رائے لکھیے۔
- 4۔ دو ایسے اجنبیوں کے درمیان ہونے والی موثر گفتگو تحریر کیجیے جو ٹرین میں ایک دوسرے سے ملے ہوں۔
- 5۔ آپ کے خیال میں کون سی تین مہارتیں زیادہ اہم ہیں؟ اور کیوں؟

عملی کام 7

موثر ترسیلی مہارتیں

موضوع: ابلاغ کے اسالیب اور مہارت کی تفہیم
کام: خود اپنے ہی ابلاغ کے اسلوب اور مہارت کا تجزیہ

پریکٹسکل کا مقصد: طلباء خود اپنی مہارتوں (یعنی شخصی و قوتوں اور خامیوں اور ان پر قابو پانے کی مشق) کا تجربہ کر سکیں گے۔

عملی کام کی انجام دہی

- آپ نے اسی باب میں پڑھا کہ ابلاغی مہارتوں کے یکساں طور پر دو اہم حصے ہیں۔ یعنی ایک لفظی اور دوسرا غیر لفظی۔ اسی لیے ابلاغی مہارتوں کا تجربہ کرتے وقت ہمیں دونوں حصول کو ذہن میں رکھنا ہو گا۔
- اپنی کلاس کے ساتھیوں کی بات چیت کا مشاہدہ کیجیے اور ان کے جسمانی اشارات، قربت (Proximity) اور متوازی زبان کے طریق کا مطالعہ کیجیے۔ (Paralinguistic)

مرحلہ 1: پہلے طلباء کو یہ بتائیے کہ وہ جس موضوع پر بولنا چاہتے ہیں اس پر پانچ منٹ اپنے خیالات کو اٹھا کر لیں۔

مرحلہ 2: طلباء سے کہیے کہ وہ نام کی ابجدی ترتیب سے یا پھر جس طرح وہ چاہیں ایک ایک کر کے اظہار خیال کریں۔

مرحلہ 3: اب درج ذیل چیک لسٹ کے مطابق ہر مقرر کے اسلوب کا تجربہ کیجیے۔

		درجہ بندی	بیان	خصوصیات
1	2	3		
			آپ جیسے نو عمر طالب علم کے لیے مناسب	مواد
			<ul style="list-style-type: none"> • سیدھا، • سیدھا اکڑ کے ساتھ، • ہلکا خمیدہ 	جسمانی انداز
			<ul style="list-style-type: none"> • تو اتر ایک طرف سے دوسرے طرف سر کی چینش 	آنکھ مانا
			<ul style="list-style-type: none"> • خوشی، دوستانہ بات، گرم جوشی 	چہرے کے تاثرات
			<ul style="list-style-type: none"> • ہلنچانہ، پہلو بدنہ 	قربت
			<ul style="list-style-type: none"> • ہ، ل، آہنگ، کھنک، بلندی 	متوازی زبان
				کل نمبر

مرحلہ 4: طلباء کے اظہار خیال کے بعد تو ان کے نمبروں کو جوڑیے اور اس سے مقرر کے بارے میں اپنے تاثرات کا موازنہ کیجیے۔

مرحلہ 5: ہر مقرر کے بارے میں نتائج اخذ کیجیے اور ان خصوصیات کی نشان دہی کیجیے جن کے لیے ہر ایک کو اپنی ترسیلی مہارتوں کو بہتر بنانے کے لیے مشق کی ضرورت ہے۔